

ماڈل پیپر ”سکن کئیر“  
برائے ڈپلومہ ووکیشنل ٹیچرز ڈویلپمنٹ (ایک سالہ کورس)  
برائے سالانہ امتحان 2017 و مابعد

(معروضی)

کل نمبر: 10

کل وقت: 20 منٹ

نوٹ: مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں نیز کاٹ کر اور دوبارہ لکنا ہوا جواب قابل قبول نہیں ہوگا ہر سوال کے نمبر برابر ہیں۔

(1) پیلی لائٹ کس چیز میں استعمال ہوتی ہے؟

(الف) جلد کا تجزیہ کرنے میں (ب) مساج میں (ج) سکرب میں

(2) Deodorant کس لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

(الف) پسینہ روکنے کے لیے (ب) بدبو ختم کرنے کے لیے (ج) درد ختم کرنے کیلئے

(3) اپلاؤس ایک \_\_\_\_\_

(الف) پروٹین (ب) کاربوہائیڈریٹ (ج) منرل

(4) ایسی خریداری جو کسی منصوبہ بندی کے بغیر کی جائے وہ کہلاتی ہے۔

(الف) صارفین کے لیے خریداری (ب) وائٹی (ج) منصوبہ بندی کے بغیر خریداری

(5) فٹ سبائی کب ضرورت ہوتی ہے؟

(الف) مینی کیور (ب) پیڈی کیور (ج) مساج

(6) Elastin ایک

(الف) پروٹین ہے (ب) معدنیات ہے (ج) جزی ہے

(7) سیاہ حلقے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟

(الف) آنکھ (ب) کان (ج) ناک

(8) جلد سب سے بڑا

(الف) عضو ہے (ب) خلیہ ہے (ج) غدود ہے

(9) ڈبل روٹی، آلو اور چینی ذریعہ ہیں۔

(الف) معدنیات (ب) کاربوہائیڈریٹ (ج) چکنائی

(10) Rosecea کی علامت

(الف) چہرے پر سُرخ (ب) چھاتی پر سُرخ (ج) پاؤں پر سُرخ

ماڈل پیپر ”سکن کیئر“  
برائے ڈپلومہ ووکیشنل ٹیچرز ڈیپارٹمنٹ (ایک سالہ کورس)

برائے سالانہ امتحان 2017 و مابعد

(حصہ انشائیہ)

کل نمبر: 30

وقت: 1:40 گھنٹے

حصہ اول

(9x2)=18

سوال نمبر 1۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔

- 1: SPF کی تعریف کریں
- 2: کام کے بوجھ کی تعلیم کیا ہے؟
- 3: ہنرز کس کے لئے استعمال ہوتا ہے
- 4: گلوٹنگ فینٹل سے کیا مراد ہے؟
- 5: جھری کیا ہے؟
- 6: سکن برن کی وجوہات کیا ہیں؟
- 7: متوازن غذا کسے کہتے ہیں؟
- 8: کولجن کا کیا فعل ہے؟
- 9: تھریڈنگ میں کون سا دھاگا استعمال ہوتا ہے؟

حصہ دوم

(6x2)=12

نوٹ: کوئی سے دو سوال حل کریں۔

- سوال نمبر 2۔ کاروبار میں رویہ کی اہمیت کو بیان کریں؟
- سوال نمبر 3۔ مینی کیور اور پیڈی کیور کا طریقہ لکھیں؟
- سوال نمبر 4۔ کولجن کا کیا فعل ہوتا ہے؟
- سوال نمبر 5۔ جلد کی مختلف اقسام کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟

ماڈل پیپر "سکن کیئر"  
برائے ڈپلومہ ووکیشنل ٹیچرز ڈیپارٹمنٹ (ایک سالہ کورس)

برائے سالانہ امتحان 2017 و مابعد

(عملی)

کل نمبر: 60

وقت: 5 گھنٹے

نوٹ: درج ذیل پریکٹیکل کریں؟

- |                   |    |               |
|-------------------|----|---------------|
| 1: ایکنی فیشنل    | یا | وائٹنگ فیشنل  |
| 2: ویکس کریں      | یا | سکن پالش کریں |
| 3: مینی پیڈی کریں | یا | فیس مساج کریں |